

## Smittestopp کیا ہے؟

Smittestopp نارویجن انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ (Folkehelseinstituttet, FHI) کی ایک ایپ کا نام ہے۔ یہ ایپ معاشرے میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے میں مدد کرتی ہے۔ ایپ استعمال کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آپ خود کرتے ہیں۔

اگر آپ کے ٹیسٹ سے آپ کو کرونا وائرس ہونے کا پتہ چلے تو آپ ایپ کے ذریعے دوسروں کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ تب دوسروں کو پتہ چل جائے گا کہ شاید انہیں انفیکشن سے واسطہ پڑ چکا ہے اور انہیں مشورہ ملتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح ایپ بیماری کو زیادہ لوگوں میں پھیلنے سے روک سکتی ہے۔ ایپ لوگوں کو یہ نہیں بتاتی کہ انفیکشن میں مبتلا شخص آپ ہیں۔

## آپ اپنے فون پر Smittestopp کیسے انسٹال کر سکتے ہیں؟

- ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔
- ایپ میں آپ کو سکرین پر جو ہدایات دکھائی جائیں، ان پر عمل کرتے جائیں۔
- اگر آپ کو زبان سمجھ نہ آ رہی ہو تو کسی سے پڑھنے میں مدد لے لیں۔

## Smittestopp ایپ کیسے کام کرتی ہے؟

جب آپ کسی ایسے شخص کے قریب ہوں جس کے فون میں یہ ایپ ہو تو آپ دونوں کے فون ایک دوسرے کو سگنل بھیجتے ہیں۔

جب دوسرے شخص کے ٹیسٹ سے پتہ چلے کہ اسے کرونا وائرس ہے تو ایپ کو یاد ہوتا ہے کہ آپکا فون اس انفیکشن میں مبتلا شخص کے قریب رہ چکا ہے۔ اب ایپ آپ کو اطلاع دے گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ یہ بھی چن سکتے ہیں کہ اگر خود آپ کو انفیکشن ہونے کا پتہ چلے تو کیا آپ دوسروں کو اطلاع دینا چاہیں گے۔

اگر ایپ میں آپ کے لیے کوئی اطلاع آئے تو آپ صرف یہ جان سکیں گے کہ شاید آپ کو انفیکشن سے واسطہ پڑ چکا ہے، آپ یہ نہیں جان سکیں گے کہ انفیکشن کس شخص کو ہے یا وہ شخص کہاں ہے۔ نہ تو حکام کو اور نہ ہی عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں یا آپ کہاں وقت گزار چکے ہیں۔

## پرائیویسی

- Smittestopp استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی عمر 16 سال ہو چکی ہو۔
- آپ کے بارے میں تفصیلات 14 دن بعد ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔
- آپ جب چاہیں، ایپ میں اپنی تفصیلات ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔
- آپ جب چاہیں، ایپ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔

## پہلے والی زندگی واپس لانے میں ہاتھ بٹائیں